



(imageless edition)

- Lindiwe Matsikiza
- Meghan Judge
- Samrina Sana
- Urdu
- Level 3

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Attribution 4.0 International License.

This work is licensed under a Creative Commons



stories in Canada's many languages.

Storybooks Canada is an effort to provide children's stories in Canada's many languages (africanstorybook.org) and is brought to you by

Lindiwe Matsikiza

Written by: Lindiwe Matsikiza

Illustrated by: Meghan Judge

Translated by: Samrina Sana


خالد

storybookscanada.ca

Storybooks Canada




خالد



یہ ایک چھوٹی سی لڑکی تھی۔ جس نے دور فاصلے پر ایک
پراسرار چیز دیکھی۔

میں اپنے خرچوں کا کیا سچا



شرماتے ہوئے لیکن وہ بہادر لڑکی اُس عورت کے قریب گئی۔
ہمیں اسے اپنے پاس رکھنا چاہیے۔ چھوٹی لڑکی کے لوگوں نے
فیصلہ کیا۔ ہم اسے اور اس کے بچے کو محفوظ رکھیں گے۔



گدھا بچہ اور اُس کی ماں ایک ساتھ رہے اور زندہ رہنے کے
لیے مختلف طریقے سیکھے۔ آہستہ آہستہ اُن کے ارد گرد رہنے
والے باقی گھر بھی ٹھیک ہو گئے۔

ପାଠ-

କୁଳାଙ୍ଗାରେ କୁଳାଙ୍ଗାରେ
କୁଳାଙ୍ଗାରେ କୁଳାଙ୍ଗାରେ
କୁଳାଙ୍ଗାରେ କୁଳାଙ୍ଗାରେ

ପାଠ

କୁଳାଙ୍ଗାରେ କୁଳାଙ୍ଗାରେ
କୁଳାଙ୍ଗାରେ କୁଳାଙ୍ଗାରେ
କୁଳାଙ୍ଗାରେ କୁଳାଙ୍ଗାରେ





لیکن جب انہوں نے بچے کو دیکھا ہر کسی نے حیران ہو کر پیچھے
کی طرف چھلانگ لگائی۔ ایک گدھا!

گدھے کو آخر کار معلوم تھا کہ اب اُسے کیا کرنا ہے۔

-می-تی-خی-لی-تی-خی-لی-
 -می-تی-خی-لی-تی-خی-لی-
 می-تی-خی-لی-تی-خی-لی-

-خی-لی-تی-خی-لی-



اور اس طرح عورت نے خود پھر اکیلا پایا۔ وہ حیران تھی کہ
وہ اس عجیب بچے کے ساتھ کیا کرے۔ وہ اس بات پر بھی
حیران تھی کہ وہ اپنے ساتھ کیا کرے۔

بہت اوپر بادلوں کے درمیان وہ سو گئے۔ گدھ کو خواب آیا
کہ اُس کی ماں بیمار ہے اور اُسے بُلارہی ہے اور جب وہ
جاگا۔۔۔

-مُرْتَأِي؟ فَكَانَ
شُفَّاعًا لِلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دَعَوْا

-مُرْتَأِي
”إِذَا دَعَوْا مُرْتَأِيَّا لِرَبِّهِمْ مُنِيبِينَ“

اب اگر بچہ چھوٹا رہتا تو ہر چیز مختلف ہوتی۔ لیکن گدھا بچہ
بڑے سے بڑا ہوتا گیا حتیٰ کہ وہ اپنی ماں کی پیٹھ پر پورا نہ آتا۔
اور باوجود اس کے کہ اُس نے بہت کوشش کی لیکن وہ ایک
انسان کی طرح برداونہ کر سکتا۔ اُس کی ماں اکثر تھک جاتی اور
تنگ آ جاتی۔ بعض اوقات وہ اُس سے جانوروں والے کام
کرواتی۔

گدھا اُس بوڑھے آدمی کے ساتھ رہنے چلا گیا جس نے اُسے
رہنے کے لیے کئی طریقے سیکھائے۔ گدھا سنتا اور سیکھتا
جس سے وہ بوڑھا آدمی بھی سیکھتا۔ وہ ایک دوسرے کی مدد
کرتے اور مل کر ہنستے۔

- ئىككىرىرىتىرا سارىھىتى
ئەھۋا ئىككىرىرىتىرا سارىھىتى
ئەھۋا ئىككىرىرىتىرا سارىھىتى

- ۋېتۇتىپا ئەتكەنلەر

ئەتكەنلىك ئەتكەنلىك ئەتكەنلىك
ئەتكەنلىك ئەتكەنلىك ئەتكەنلىك
ئەتكەنلىك ئەتكەنلىك ئەتكەنلىك
ئەتكەنلىك ئەتكەنلىك ئەتكەنلىك

گدھا بہت شرمندہ تھا۔ اُس نے بھاگنا شروع کیا، جتنا تیز اور
جتنا دور وہ بھاگ سکتا تھا۔

وقت کے ساتھ اُس نے بھاگنا بند کیا، رات ہو چکی تھی اور
گدھا کھو گیا تھا۔ ہی ہا؟ وہ اندر ہیرے میں سر سرا یا۔ ہی ہا؟ آواز
واپس گونجی۔ وہ اکیلا تھا خود کو ایک گیند کی طرح گول کر کے
وہ ایک گہری اور دردناک نیند میں سو گیا۔